

**Q. 7. Translate the following Urdu paragraph into English by keeping in view figurative/ idiomatic expression.**

(10)

عام لوگوں کا خیال ہے کہ مُلک کے قانون اور فرد کی آزادی ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ بات غلط معلوم نہیں ہوتی۔ ہر قانون شہریوں پر کوئی نہ کوئی پابندی عائد کرتا ہے۔ اگر مُلک میں قوانین کی تعداد زیادہ ہو تو مجموعی پابندیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ زیادہ پابندیوں سے فرد کی آزادی ان کے بوجھ تلے دب کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس قوانین کی تعداد کم ہو تو شہریوں کی آزادی کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔

## Translation:

It is generally believed

Common people believe that a country's law and its people's freedom are reciprocratory <sup>seems</sup> ~~with~~ each other. Apparently it ~~might~~ ~~seem~~ ~~true.~~ Every law imposes some kinds of restrictions on citizen. An increased number of laws in a state means an increased number of restrictions as well. In such situation, individual freedom gets <sup>oppressed</sup> due to restrictions. While on the other hand decrease in number of laws increases the range of freedom for citizens.

